



اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصہ کیے، ان میں سے ننانوے حصہ اپنے پاس روک لیے اور ایک حصہ زمین میں اتارا اسی ایک حصہ کی وجہ سے تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ ہاں تک کہ ایک جانور بھی اپنا کھر اپنے بچے سے لٹا لیتا ہے کہ میں اسے تکلیف نہ پہنچاؤں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصہ کیے، ان میں سے ننانوے حصہ اپنے پاس روک لیے اور ایک حصہ زمین میں اتارا اسی ایک حصہ کی وجہ سے تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ ہاں تک کہ ایک جانور بھی اپنا کھر اپنے بچے سے لٹا لیتا ہے کہ میں اسے تکلیف نہ پہنچاؤں۔“ ایک اور روایت میں ہے: ”اللہ تعالیٰ کے پاس سو رحمتیں ہیں اس نے ان میں سے ایک رحمت جنوں، انسانوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے اسی ایک حصہ رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی کرتے اور رحم سے پیش آتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جنگلی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے۔ جب کہ اللہ نے ننانوے رحمتیں پیچھے رکھ چھوڑی ہیں جن کے ذریعے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔“ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس سو رحمتیں ہیں انہی میں سے ایک وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے جب کہ ننانوے رحمتیں قیامت کے دن کے لیے (محفوظ) ہیں۔“ ایک اور روایت میں ہے کہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، سو رحمتیں پیدا کیں۔ ہر رحمت اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کے مابین مسافت ہے پھر ان میں سے ایک رحمت کو اس نے زمین میں رکھ دیا، اسی کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر اور جنگلی جانور اور پرندے ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس (دنوی) رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائے گا۔“

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے - متفق علیہ]

اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے سو حصہ بنائے اور ان میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل کیا اور بقیہ ننانوے حصہ قیامت کے دن کے لیے اپنے پاس روک رکھا۔ اسی ایک رحمت ہی کی وجہ سے تمام مخلوقات یعنی جن و انس، چوہائے اور کیڑے مکوڑے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ ہاں تک کہ گھوڑی جو پھرتیلے پن اور ادھر ادھر منتقل ہونے میں مشہور ہے وہ بھی احتیاط کرتی ہے کہ کہیں اپنے بچے کو گزند نہ پہنچا دے۔ چنانچہ اسے نقصان پہنچنے کے اندیشہ کی وجہ سے اپنا کھر اوپر اٹھا لیتی ہے اسی رحمت کی وجہ سے جنگلی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ننانوے رحمتیں موخر کر رکھی ہیں تاکہ ان کے ذریعے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے۔ دوسری حدیث: اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن ہی سو رحمتوں کو پیدا فرمایا۔ ہر رحمت اتنی ہے کہ اس سے آسمان اور زمین کے مابین کی جگہ بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک رحمت کو دنیا میں رکھا جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر اور حیوانات و پرندے ہر ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ پھر روز قیامت اللہ رب العالمین (اس کے ساتھ) ننانوے رحمتیں ملا کر اسے پورا فرما دے گا۔ جب اس ایک رحمت کی بدولت انسان کو اس تلخیوں بھری دنیا میں اللہ عز و جل کی اتنی عظیم الشان نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو پھر سو رحمتوں کے ساتھ آخرت کے بارے میں آپ کا گیا گمان ہے جو جائے قرار و جزا ہے۔



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

